

Du'a 'Allahumma Man Taaba Tahayia' For Day & preceding nights of Friday and Arafah

دَعَا اَللّٰهُمَّ مَنْ تَعَبَّأً وَتَهَيَّأً
دن اور رات جمعہ و عرفہ

Kindly recite Sūrat al-Fātiḥah for Marhumeen of all those who have worFor any errors / comments please write to:
duas.org@gmail.com
ked towards making this small work possible.



Shaykh al-Tusi, Sayyid Ibn Tawus, al-Kaf`ami, and Sayyid Ibn Baqi have recorded that it is recommended to say the following supplicatory prayer on Fridays and at Friday nights and on the day and night of `Arafat (the ninth of Dhu'l-Hijjah). However, the supplication will be hereinafter cited as quoted from Shaykh al-Tusi's book of al-Misbah:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِ مُحَمَّدٍ

O' Allāh send Your blessings on Muhammad
and the family of Muhammad.

اے اللہ! رحمت فرما محمد و آل (ع) محمد پر

allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In the Name of Allāh,
the All-beneficent, the All-merciful.

عظیم اور دائی رحمتوں والے خدا کے نام سے

bismi allahi alrrahmini alrrahimi

اللَّهُمَّ مَنْ تَعَبَّأً وَتَهَيَّأً

O Allah, One may call up, prepare,

خدایا جو بھی عطا و بخشش کے لئے

allahumma man ta`abba'a wa tahayya'a

وَأَعِدُّوا وَأَنْتُمْ مُسْتَعِدُونَ

ready oneself, and stand prepared

جانے کے لئے تیار اور مستعد ہو

wa a`adda wasta`adda

لِوِفَادَةِ إِلَى مَخْلُوقٍ

for purpose of coming to a creature

مخلوق کی طرف مقصد سے

liwifadatin ila makhlukin

رَجَاءَ رِفْدِهِ

in the hope of gaining his aid

اسکی مدد حاصل کرنے کی امید میں

raja'a rifdihi

وَطَلَّبَ نَائِلِهِ وَجَائِزَتِهِ

and asking for his gift and present.

اور تیرے انعام کے حصول پر

wa talaba na'ilihi wa ja'izatihi

فَالَيْكَ يَا رَبِّ تَعْبِيَّتِي وَأَسْتِعْدَادِي

As for myself, to You—O my Lord—I make my
preparations and readiness

تو اے پروردگار! میری آمادگی و تیاری

fa-ilayka ya rabbu ta`biyati wasti`dadi

رَجَاءَ عَفْوِكَ

hoping for Your pardon

تیرے عفو و درگزر

raja'a `afwika

وَطَلَبَ نَائِيكَ وَجَائِزَتِكَ

and asking for Your gift and present.

تیرے انعام کے حصول پر ہے

wa talaba na'ilika wa ja'izatika

فَلَا تُخَيِّبْ دُعَائِي

So, (please) do not disappoint my entreaty.

پس میری دعا کو مایوس نہ کر

fala tukhayyib du`a'i

يَا مَنْ لَا يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ

O He Who never disappoints His beseechers

اے وہ ذات جس سے کوئی سائل نہ امید نہیں ہوتا

ya man la yakhibu `alayhi sa'ilun

وَلَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ

and Whose prizes never decrease His ample-giving!

نہ عطا میں کمی آتی ہے

wa la yanqusuhu na'ilun

فَإِنِّي لَمْ آتِكَ بِثِقَّةٍ بِعَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلْتُهُ

I have not come to You with confidence of a righteous deed that I have done

تو میں نے جو عمل صالح کیا اس کے بھروسے پر تیری جناب میں نہیں آیا

fa'inni lam atika thiqatan bi`amalin salihin `amiltuhu

وَلَا لِيُوفَادَةٍ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ

nor have I had any hope in a grant
of any creature.

نہ مخلوق کے دین کی امید رکھتا ہوں

wa la liwafadati makhluqin rajawtuhu

أَتَيْتُكَ مُقِرّاً عَلَى نَفْسِي بِالْإِسَاءَةِ وَالظُّلْمِ

Rather, I have come to You professing
myself to be evildoer and transgressor

تو اپنی برائیوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں

ataytuka muqirran `ala nafsi bil-isa'ati walzzulmi

مُعْتَرِفًا بِأَنْ لَّا حُجَّةَ لِي وَلَا عُذْرَ

and confessing that I lack any pretext or
excuse.

اور کوئی حجت اور عذر نہیں رکھتا ہوں

mu`tarifan bi-an la hujjata li wa la `udhra

أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفْوِكَ

I have come to You hoping for Your great
pardon

میں تیرے حضور تیرے عظیم عفو کی امید لے کر آیا ہوں

ataytuka arju `azima `afwika

الَّذِي عَفَاكَ بِهِ عَنِ الْخَاطِئِينَ

due to which You have pardoned
the wrongdoers.

جس سے تو خطا کاروں کو معاف فرماتا ہے

alladhi `afawta bihi `ani (a)lkhati'ina

فَلَمْ يَمْنَعَكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَيَّ عَظِيمِ الْجُرْمِ

Hence, their long-lasting retirement to their grave offenses has not prevented You

کہ ان کے گناہوں کا تسلسل تجھے

falam yamna`ka tulu`ukufihim`ala`azimi aljirmi

أَنْ عُدْتَ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ

from turning to them with mercy.

ان پر رحمت کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا

an `udta `alayhim bilrrahmati

فَيَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ

O He Whose mercy is huge

اے وہ جس کی رحمت عام

faya man rahmatuhu wasi`atun

وَعَفْوُهُ عَظِيمٌ

and Whose pardon is great;

اور عفو بخشش بہت بڑی ہے

wa `afwuhu `azimun

يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ

O All-great, O All-great, O All-great;

يا عظيم، يا عظيم، يا عظيم

ya `azimu ya `azimu ya `azimu

لَا يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا حِلْمُكَ

nothing can repel Your rage except Your
forbearance

تیرا غضب تیرے ہی حلم سے پلٹ سکتا ہے

la yaruddu ghadabaka illa hilmuka

وَلَا يُنْجِي مِنْ سَخَطِكَ إِلَّا التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ

and nothing can save from Your wrath except imploring earnestly to You.

اور تیری ناراضی تیرے حضور نالہ و فریاد سے دور ہوسکتی ہے

wa la yunji min sakhatika illa alttadarru`u ilayka

فَهَبْ لِي يَا إِلَهِي فَرَجاً

So, my God, (please) grant me a relief

تو اے میرے خدا! مجھے اپنی

fahab li ya ilahi farajan

بِالْقُدْرَةِ الَّتِي تُحْيِي بِهَا مَيِّتَ الْبِلَادِ

in the name of the power through which
You restore to life the derelict lands,

اس قدرت سے کشائش عطا کر جس سے تو اجڑے شہروں کو
آباد کرتا ہے

bilqudrati allati tuhyi biha mayta albiladi

وَلَا تُهْلِكْنِي غَمًّا حَتَّى تَسْتَجِيبَ لِي

and do not cause me to perish out
of grief until You respond to me

مجھے غمگینی میں ہلاک نہ کریں تک کہ

wa la tuhlikni ghamman hatta tastajiba li

وَتُعَرِّفَنِي الْإِجَابَةَ فِي دُعَائِي

and show me signs of Your response
to my prayers.

تو میری دعا کی قبولیت سے مجھے آگاہ نہ فرمائے

wa tu`arrifani al-ijabata fi du`a'i

وَأَذِقْنِي طَعْمَ الْعَافِيَةِ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي

(please) Make me taste the flavor of wellbeing up to the end of my lifetime,

مجھے میرے دم آخر تک صحت و عافیت سے رکھ

wa adhiqni ta`ma al`afiyati ila muntaha ajali

وَلَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي

do not make my enemies gloat over me,

اور دشمن کو میری بُری حالت پر خوش نہ ہونے دے

wa la tushmit bi `aduwwi

وَلَا تُسَلِّطُهُ عَلَيَّ

do not give them a hand over me,

اُسے مجھ پر تسلط

wa la tusallithu `alayya

وَلَا تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِي

and do not make them control over me.

اور اختیار نہ دے

wa la tumakkinhu min `unuqi

اللَّهُمَّ إِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي

O Allah, If You humiliate me, who can then exalt me?

اے پروردگار! اگر تو مجھے گرا دے تو کون مجھے اُٹھانے والا ہے

allahumma in wada`tani faman dha alladhi yarfa`uni

وَإِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي

And if You exalt me, who can then humiliate me?

اور تو مجھے بلند کرے تو کون مجھے پست کر سکتا ہے

wa in rafa`tani faman dha alladhi yada`uni

وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْزُضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ

If You annihilate me, who can then interfere before
You concerning the affair of me—Your slave

اگر تو مجھے ہلاک کرے تو کون تیرے بندے سے متعلق تجھے کچھ
کہہ سکتا ہے

wa in ahlaktani faman dha alladhi ya`ridu laka fi `abdika

أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ

or who can intercede to ask You about it?

یا اس کے بارے میں سوال کر سکتا ہے

aw yas'aluka `an amrihi

وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ

I have already known for sure that Your
decrees are devoid of injustice

بے شک میں یہ جانتا ہوں کہ تیرے حکم میں ظلم نہیں

wa qad `alimtu annahu laysa fi hukmika zulmun

وَلَا فِي نَقْمَتِكَ عَجَلَةٌ

and Your punishment does not count on
immediateness.

اور تیرے عذاب میں جلدی نہیں

wa la fi naqimatika `ajalatun

وَإِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ

Verily, immediateness is the work of him who fears lest he may miss,

اور اسے وقت نکل جانے کا ڈر ہو

wa innama ya`jalu man yakhafu alfawta

وَإِنَّمَا يَجْتَايُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ

and only do the weak need injustice.

اور ظلم وہ کرتا ہے جو بے قدرت اور کمزور ہو

wa innama yahtaju ila alzzulmi aldda`ifu

وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا

As for You, O my God, You are too exalted to be so—Exalted and Great You are beyond all measure!

اور اے میرے معبود! تو ان باتوں سے بلند اور بہت بڑا ہے

wa qad ta`alayta ya ilahi `an dhalika `uluwwan kabiran

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ فَأَعِدْنِي

O Allah, I take refuge in You; so, (please) have protection upon me!

اے میرے معبود! میں تیری پناہ لیتا ہوں پس تو مجھے پناہ

allahumma inni a`udhu bika fa-a`idhni

وَأَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْنِي

I call for Your safekeeping; so, (please) keep me
under Your security!

تیرے نزدیک آتا ہوں مجھے نزدیک کر لے

wa astajiru bika fa-ajirni

وَأَسْتَرْزُقُكَ فَارْزُقْنِي

I appeal for Your sustenance; so, (please)
provide me with sustenance!

تجھ سے روزی مانگتا ہوں مجھے روزی دے

wa astarziquka farzuqni

وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَاكْفِنِي

I put trust in You; so, (please) keep me under
Your supervision!

تجھ پہ بھروسہ رکھتا ہوں میری کفایت فرما

wa atawakkalu `alayka fakfini

وَأَسْتَنْصِرُكَ عَلَىٰ عَدُوِّي فَأَنْصُرْنِي

I call for Your aid against my enemy; so, (please)
grant me support!

اپنے دشمن کے خلاف تجھ سے مدد چاہتا ہوں

wa astansiruka `ala `aduwwi fansurni

وَأَسْتَعِينُ بِكَ فَاعِنِّي

I seek Your assistance; so, (please) assist me!

اور اعانت کا طالب ہوں میری مدد فرما

wa asta`inu bika fa-a`inni

وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا إِلَهِي فَأَعْفِرْ لِي

I ask for Your forgiveness; so, (please)
forgive me.

اور میرے معبود تجھ سے بخشش کا طالب ہوں مجھے بخش دے

wa astaghfiruka ya ilahi faghfir li

آمِينَ آمِينَ آمِينَ

So, respond! Respond! Respond!

آمين آمين آمين

amina amina amina

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ

O' Allāh send Your blessings on Muhammad
and the family of Muhammad.

اے اللہ! رحمت فرما محمد و آل (ع) محمد پر

allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad

**Please recite
Sūrat al-Fātiḥah
for
ALL MARHUMEEN**

For any errors / comments please write to: duas.org@gmail.com
Kindly recite Sūrat al-Fātiḥah for Marhumeen of all those who have worked towards making this small work possible.